

برامپٹن میں کینیڈا ڈے کا جشن منائیں!

برامپٹن، آن (17 جون 2022) – سٹی آف برامپٹن 1 جولائی کو چنگواکوسی پارک میں دن 12 سے رات 10 بجے تک کینیڈا ڈے کی ذاتی طور پر شرکت کی تقریبات منعقد کرنے کا اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہے۔ برامپٹن کی کینیڈا ڈے کی تقریب شہر کا سب سے بڑا سنگل ڈے ایونٹ ہوتا ہے، اور اس موقع کو براہ راست تفریح، فنون، ثقافت، کھانے پینے کی اشیاء، آتش بازی اور مزید کئی رنگا رنگ پروگراموں کے ساتھ منایا جاتا ہے!

خاندان دوست تفریحی سرگرمیاں

درج ذیل تفریحی سرگرمیوں سے بھرپور دن کے لیے پورے خاندان کو ساتھ لائیں:

- انفلٹیٹ ایبل زون میں تفریحی اچھل کود؛
- چنگواکوسی پارک کی جانب سے پیش کی جانے والی تمام سہولیات کا خوب لطف اٹھائیں، جن میں سہولت پیشہ اور کھیل کے میدان، اسکیت بورڈ پارک، منی گالف، کیروسل اور ٹریک لیس ٹرین، پیڈل بوٹ کرایہ پر لینا، منی مو فارم (mini moo farm) اور بہت کچھ شامل ہے؛
- فوڈ اور ریٹیل ویڈر زونز میں مقامی کاروباروں کی مدد کریں؛
- کونسل کے اراکین کے ساتھ ایک کپ کیک کا تحفہ؛
- میریڈین کریٹ یونین کی طرف سے پیش کردہ واٹر ری فل اسٹیشنز؛
- رات 10 بجے ٹم ہارٹنز کی جانب سے پیش کی جانے والی لائیو آتشبازی؛
- مزید بہت کچھ!

براہ راست تفریح

پیڈل بوٹ پولین کے قریب چنگواکوسی سونگ آرکسٹرا، برامپٹن فوک کلب اور الیکٹرک ریوائل دوپہر بھر موسیقی کے ساتھ وزیٹرز کو محظوظ کریں گے۔ اس کے بعد، 6 بجے مین اسٹیج سے براہ راست میوزیکل پرفارمنس کے لیے کنسرٹ زون کی جانب بڑھیں، جس کی میزبانی میڈیا کی مشہور شخصیت، کاروباری اور ثقافتی شراکت دار جیسی جونز (Jesse Jones) کریں گی۔ رابرٹا بٹاگلیا قومی ترانہ گانے کے ساتھ پرفارمنس کا آغاز کریں گی اور اس کے بعد برامپٹن ریپر سپیٹی کی پرفارمنس سے لطف اندوز ہوں، اس کے بعد ایک نہ بھول سکنے والی رات کے لیے جونو کے لیے نامزد شدہ اسنوٹی نوز ریز کڈز اور بیڈ لائنر اور ہپ ہاپ لیجنڈ، کارڈینل آفیشل کی شاندار کارکردگی کا لطف اٹھائیں۔ رات 10 بجے رات کا اختتام کینیڈا کی سالگرہ کی یاد میں ٹم ہارٹنز کی جانب سے پیش کردہ شاندار آتش بازی کے شو کے ساتھ کریں۔

سپٹی، برامپٹن سے تعلق رکھنے والا ایک ہندوستانی کینیڈین ریپر ہے، جس کی دلکش آواز کے مداحوں کی تعداد پوری دنیا میں تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 2021 میں، سپٹی نے اپنا پہلا البم فل سرکل ریلیز کیا، جس میں انہیں رولنگ سٹون انڈیا اور مچ میوزک سمیت بہت سی اشاعتوں سے خوب داد تحسین موصول ہوئی، جس کو نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی خوب شہرت حاصل ہوئی۔ البم کی طاقت سے ہٹ کر، سپٹی نے اپنے ٹورانٹو کنسرٹ کے آغاز میں اپنی آواز کا جادو جگایا اور 2022 کے اوائل میں 6 ہفتے کے USA ٹور کے لیے اپنی موسیقی کو سڑکوں تک لے جانے سے پہلے پورے جنوبی اونٹاریو میں اپنی کارکردگی کا شاندار مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد سے انہوں نے اپنی آگے بڑھنے کی رفتار کو جاری رکھا اور دنداس اسکوائر میں دیسی فیسٹ (DesiFest) میں اپنی آواز کا جادو جگانے کے علاوہ کینیڈین میوزک ویک، NXNE اور ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں BVX فیسٹ میں بھی پرفارم کیا ہے۔

اب سپٹی کا مقصد نیا ہٹ میوزک ریلیز کرنا اور ہائی انرجی لائیو شوز کا اپنا سفر جاری رکھنا ہے۔

سنوٹی نوز ریز کڈز فرسٹ نیشنز ہپ باپ جوڑی ہیں جو بیسلا ریپرز ڈیرن "ینگ ڈی" میٹر اور کونٹن "یونگ ٹریبیز" Nyce پر مشتمل ہے۔ ان کا تعلق برٹش کولمبیا کے گاؤں کیتیمات (Kitamaat) سے ہے اور فی الحال وہ وینکوور میں مقیم ہیں۔ ان کے 2017 کے البم دی ایوریج سیویج کو 2018 کے پولارس میوزک پرائز کے لیے شارٹ لسٹ کیا گیا تھا اور انہیں 2019 اور 2022 میں جونو ایوارڈز میں جونو ایوارڈ انڈیجینس میوزک البم آف دی ایئر کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا۔

کارڈینل آفیشل ایک ریپر، ریکارڈ پروڈیوسر، ڈی جے اور ریکارڈ ایگزیکٹو ہے۔ اکثر کینیڈا کے "ہپ ہاپ ایمبیسڈر" کے طور پر جانا جاتا ہے، انہیں ملک کے بہترین ہپ ہاپ فنکاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور وہ اپنے مخصوص ریگے (reggae) اور ڈانس ہال سے متاثر ہپ ہاپ کے انداز کے لیے مشہور ہیں۔

سٹی آف برامپٹن کے کینیڈا ڈے کی تقریب کو میریٹیڈ کریڈٹ یونین، ٹم ہارٹنز، الیکٹرا، بیل، کوک کینیڈا بوٹلنگ، کوالٹی سویٹس، نو فریلز اور سمپلی فنانشل کی طرف سے دل کھول کر سپانسر کیا گیا ہے۔

چنگواکوسی پارک 9050 برامیلا روڈ پر واقع ہے۔ موقع پر پارکنگ فی گاڑی \$20 میں دستیاب ہو گی اور عارضی طور پر سڑکیں بھی بند ہو سکتی ہیں۔ شرکاء کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ پیدل، بذریعہ سائیکل یا اس دن برامپٹن ٹرانزٹ کی جانب سے فراہم کردہ مفت سٹل سروس کے ذریعے تشریف لائیں۔

دوپہر سے شروع ہونے کے بعد ہر 30 منٹ کے بعد درج ذیل مقامات پر مفت سٹل دستیاب ہو گی:

- ماؤنٹ پلیزنٹ گو اسٹیشن
- ٹریٹی کامن مال
- شیرین کالج
- گور میڈوز کمیونٹی سینٹر اور لائبریری

چنگواکوسی پارک کے قریب پارکنگ کے درج ذیل متبادل مقامات دستیاب ہیں:

- برامیلیہ سٹی سنٹر
- برامپٹن سوک سنٹر
- گرین برائری کریئیشن سنٹر
- لیسٹر بی پیئرس کیتھولک سکول
- سینٹ جین بریویف کیتھولک سکول
- ٹیری ملر ریکرییشن سنٹر

کینیڈا ڈے کی تقریبات کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے brampton.ca/canadaday ملاحظہ کریں۔

اقتباسات

"ہم اس سال کینیڈا ڈے منانے کے لیے اپنے سب سے بڑے سالانہ پروگرام میں ایک بار پھر ذاتی طور پر رہائشیوں کی میزبانی کرنے کے لیے بہت پرجوش ہیں! شاندار لائیو تفریح، فنون لطیفہ، ثقافت، کھانے پینے کی اشیاء اور آتش بازی کے لیے چنگواکوسی پارک میں 1 جولائی کو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ خاندان میں ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے جس سے لطف اٹھائیں!"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"رہائشیوں اور مہمانوں کو چنگواکوسی پارک میں کینیڈا ڈے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی جاتی ہے! کینیڈین ہپ ہاپ لیجنڈ کارڈینل آفیشل اور جونو کے نامزد کردہ 'سنوٹی نوز ریز کڈز' کی پرفارمنس کے ساتھ کینیڈا کی سالگرہ منائیں، آتش بازی کے ڈسپلے سے لطف اندوز ہوں اور پورے خاندان کے لیے دوستانہ سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ موقع پر پارکنگ محدود ہے، لہذا پیدل چلنے، بائیک چلانے یا ہماری مفت برامپٹن ٹرانزٹ سٹل سروس سے فائدہ اٹھانے پر غور کریں!"

- ہرکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارڈز 9 اور 10؛ چیئر، کوآپریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن

"ہم اس سال اپنی ذاتی طور پر کینیڈا ڈے کی تقریب میں رہائشیوں کا استقبال کرنے کے منتظر ہیں۔ سرگرمیوں اور پرفارمنس کی ایک ناقابل یقین لائن اپ کے لیے 1 جولائی کو چنگو کوسی پارک میں سٹی کے ساتھ شامل ہو جائیں۔"

- پال موريسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca